



سوال

(137) مکانات کے کرایہ پر زکوٰۃ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کے پاس بہت سے مکانات ہیں، جنہیں وہ کرایہ پر دیتا ہے اور ان کے کرایہ سے سال بھر میں بہت سا مال جمع ہو جاتا ہے تو کیا اس مال پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کب واجب ہوگی اور کتنی مقدار میں ادا کرنا ہوگی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب مکان یا دوکان وغیرہ کے کرایہ سے حاصل ہونے والی رقم پر ایک سال گزر جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، سال سے قبل کرایہ حاصل کرنے والے نے اس میں سے جو رقم اپنی ضرورتوں پر صرف کر لی اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، امت کا اجماع ہے کہ اس طرح کے مال پر شرح زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے، سونے کا نصاب سعودی اور انگریزی پیمانے کے مطابق ۱۱/۳۱ اشرافی (گنی) ہے اور چاندی کا نصاب ایک سو چالیس مثقال ہے اور سعودی ریال کے مطابق اس کی شرح چھپن ریال ہے۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

مقالات و فتاویٰ

ص 263

محدث فتویٰ